




# شیطان کرے حیران ایٹھا بہن پریشان







ایک دن ایٹھا بہن اہنا دوستو چمچی بہن ، تیز  
بھائی انے چوگھا بہن ساتھ رسولا ماتگھا بیٹا جموانی  
party ماگیا ،




party بعد ایٹھا بہن 'ام نے 'ام پوتانا **بستر** پر سوئی گیا ،



رات ما اٹھا بہن ناسپنا ما شیطان بیٹو اوپنے کہے چھے

اے اٹھا بہن! تمیں کیا حق سی  
مارا دوستو جہ تمارا ہاتھ پر لاگیلا  
چھے اہنے مارا سی الگ کری لیدا؟  
مارا دوستو منے اپی دو!!




اٹھا بہن پوری رات بے چینی ما گذارے چھے ،

ہوے پسرے دن ایٹھا بہن اہنا دوستونے رسولا ما کلنگر  
جموانے ملے چھے، ایٹھا بہن دیکھے چھے کہ سگلا **چمکی**  
رہیا چھے انے اہنورنگ اُتری گیو چھے، اہماسی بواوے چھے  
انے اہنا ہاھوما **کاٹ** لگی گیو چھے تر سب کلنگر نومیٹھو  
سوا دنہیں اوٹو،

ایٹھا بہن ماسی بوکیم اوے  
چھے؟

تیز بھائی چمچی بہن نے کہے چھے



ایٹھا بہن پاچھا'ام نے'ام **بستر** پر سوئی گیا تو شیطان  
کلنگراٹھا بہن نا سپنا ما'ایو، انے شیطان بیٹا نی  
مثل اہنے **پریشان** کروالاگو،





تیسرے دن ایٹھا بہن ہر روزنی مثل اہنا دوستونے  
رسولا ما ملے چھے ، اہنا ہاتھ پر کاٹ زیادہ تھئی گئیو  
چھے ، پریشانی نا سبب کئی جتنا تھی انے مایوس  
تھئی نے کونا ما بیٹھی گیا ، اہنا دوستو پوچھے چھے

تمیں کیم  
مایوس چھو؟

تمیں کیم  
جتنا تھی؟


ایٹھا بہن!  
تمنے کئی چھو؟  
پریشانی





ایٹھا بہن روتا ہوا اہنا دوستونے کہے چھے

منے بے دن سی شیطان ناسپنا اوے  
چھے، انے مارا ہا تھپر کاٹ لاگی گیو  
چھے ترسی میں پریشان چھونر،  
ہوے میں سونہ کرونہ؟




چوگھا بہن گھنا سمجھدا رہتا ، یر سمجھی گیا کرا  
پریشانی نوحل سونر چھے ، تویر ایٹھا بہن نے محبہ  
انے اورن سی کہے چھے

ایٹھا بہن! تمیں پریشان نہر تھاؤ  
چلو اپنے سگلا مر سولا نا کونڈا اما  
pool party کریئے



ايٺا بهن اهنا دوستو ساڻه ٻائي ماڊبڪي لڳا وٺي چهي ان  
جڙ وقت يه ماڻهو اونحو ڪڙي چهي، توهان ديڪهي نه  
اهنا دوستو تر ڪي چهي

ارے واہ ايٺا  
بهن! تمارو  
ڪاٺ چلو ڳو چهي




ارے ديڪهو تماري ڇڪ  
بهي پاڇهي اوي ڪئي!!!



چوکھا بہن کوند ا ماسی باہر نکلی نے ایٹھا بہن نے لاگتی  
سی نصیحتہ کرے چھے

ایٹھا بہن! امیر المؤمنین ع فرماوے چھے: الشَّيْطَانُ مُوَلَعٌ بِالْغَيْرِ  
فَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ مَرِيحِ الْغَيْرِ  
ہاٹھ ما جمن نی چکاس انے بوڑھی جائی چھے۔ یر شیطان نے  
گھنی پسند چھے، پچھی تمارا سگلا نوایک جہ وقت بستر پر  
ارام کروا جائی تو پوتانا ہاٹھنے برابر دھوئی لے۔ تاکہ اہما کوئی  
بُونر رہی جائی۔





تر دن سي ايٿا بهن نونام **چمڪتا** بهن پري گيو انے تر  
راتے **چمڪتا** بهن اهنه **بستر** پر آرام سي رات گذارے  
چھ انے کوئي شيطان اهنے حيران نهيس ڪر توانے عزم  
ڪرے چھ ڪر هميشه هاڻه دھوئي نه آرام ڪرے

## من الکلمات النورانية

**بستر** - تو عقلمند کون چھے کہ . . . اہنو **بستر** تیار ہوئے ، کہ  
جہان حکم ایو کہ چلو تر ، وقت ، بیگ انے **بستر** لئی نے  
چلو جائی

**چمک** - حسین عرش نا ستارا ، **چمکتا** ستارا جہ لاکھونے  
ستارا بناوے ، اے مؤمنین نی جماعۃ ! استر نی اندھیری رات  
ما دعاۃ مطلقین نے حسین یرکیوا **چمکتا** ستارا اتارا چھے ،  
**کاٹ** - اُرسی صاف ، **کاٹ** والی ہوئی تو نہیں ، **کاٹ** والی  
چیز پر افتاب چمکتا نہی ،

**پریشان** - مؤمنین نی جماعۃ ! اے مؤمنین تمیں سگلا ہنستا  
رہو خوشی ما رہو اتنا **پریشان** رہو انی ضرورۃ نہی بلاء ،  
تکلیف اوے دنیا چھے ہمیشہ خوش رہو







Written and Illustrated by: Ajab M Mohammed, Arwa M. Yunus,  
Umaima Shk Mufaddal, Alefiyah M Quraish

Darajah - Hadi Ashar 1436/37H

Edited by: Shk Mustafa bhai Hamid, Al Jamea tus Saifiyah, Surat

Published by: al-Muntasebaat ilal Jamea